


گھروں کی اچھی حالت کے بارے معلوماتی کتابچہ رطوبت کے سلسلہ میں رہائشیوں کیلئے راہنمائی



تعارف

خاص طور پر موسم سرما کے مہینوں میں تمام گھروں میں رطوبت بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں زیادہ رطوبت کی وجہ سے اکائی وغیرہ جیسے مسائل کا باعث بن سکتی ہے جو آپ کی صحت اور آپ کے گھر کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ تھوڑی بہت رطوبت عام طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ ہم روزمرہ کے کچھ کام کر سکتے ہیں جن سے ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے انرجی سیونگ ٹرسٹ Energy Saving Trust والوں کے ساتھ مل کر یہ معلوماتی کتابچہ تیار کیا ہے تاکہ رطوبت کو کم رکھنے اور اپنے گھر کو اچھی حالت میں رکھنے پر کچھ عملی مشوروں سے آگاہ کر سکیں۔ ہم نئی کی مختلف اقسام کے بارے میں بھی معلومات فراہم کریں گے تاکہ آپ کسی بھی ممکنہ خدشات کی نشاندہی کر سکیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں کیسے آگاہ کر سکیں۔

آپ کے مالک مکان کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک محفوظ اور اچھی حالت میں گھر فراہم کریں۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں کوئی نئی یا کثافت نظر آئے یا ان تجاویز پر عمل کرنے کے باوجود رطوبت میں کمی نہیں آتی تو فوری ہمیں آگاہ کریں۔

ہم آپ کو درپیش کسی بھی مسئلے کی نشاندہی کرنے کیلئے آپ کے گھر کا دورہ کریں گے اور اس بات کو یقینی بنانے کیلئے ملکر کام کریں گے کہ کسی بھی خطرے یا مسائل کو ترجیح بنیاد پر حل کیا جائے۔

اگر آپ نے اس کتابچے کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو یا گھر کو اچھی اور محفوظ حالت میں رکھنے کے بارے میں مزید مشورہ چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔

رطوبت کیا ہے؟

رطوبت اُس وقت ہوتی ہے جب ہوا میں اضافی نمی ٹھنڈی جگہ پر پڑتی ہے اور پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کھانا پکانے، صفائی کرنے، نہانے اور سانس لینے جیسے روزمرہ کے کام ہمارے گھروں میں اضافی نمی پیدا کرتے ہیں۔ موسم سرما میں رطوبت ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑکیاں اور دیواریں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر نمی اور گرم ہوا زیادہ ہوتی ہے۔

سردیوں میں ہم اکثر اپنی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند ہی رکھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ نم ہوا کو باہر نکلنے کا راستہ کم ہی ملتا ہے۔ تھوڑی بہت رطوبت جو ہاتھ یا شاؤر لیتے وقت آئینے پر جمع ہوتی ہے اُس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بشرطیکہ اُسے صاف کیا جاتا رہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ بھی رطوبت نظر آئے تو اُسے خشک اور صاف کپڑے یا تولیے سے صاف کر دیں۔

اگر آپ بہت زیادہ رطوبت کے بارے پریشان ہوں تو
ہمیں **0300 561 1111** پر فون کریں۔



اچھی حالت کے گھر پر مشورہ

اگر آپ کسی جگہ پر رطوبت دیکھیں تو اُسے خشک
اور صاف کپڑے یا تولیے سے صاف کر دیں۔

نمی کیا ہے؟

رطوبت ایک قسم کی نمی ہے جو گھر کے اندر بہت زیادہ گیلے پن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قسم کی نمی بھی ہوتی ہے، جو پائپوں میں خرابی یا دیواروں یا نیچے فرش میں سے پانی وغیرہ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو تعین کرنا ضروری ہے تاکہ آپ ہمیں بتاسکیں کہ مسئلہ ہے کیا اور ہم اس کے ازالے کیلئے کارروائی کرسکیں۔

اگر آپ کے خیال میں فرش یا دیواروں سے نمی ظاہر ہو رہی ہے یا پائپوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتو فوراً ہمیں **0300 561 1111** پر فون کریں تاکہ ہم اس کا تعین کرنے آسکیں اور مسئلے کو حل کرسکیں۔

نمودار ہونے والی نمی یا گیلہ پن

نمودار ہونے والی نمی اُسے کہا جاتا ہے جو ٹی میں شامل پانی دیوار کے ذریعے اوپر آتا ہے۔ یہ صرف پہلی منزل کے کمروں یا تہہ خانوں کو متاثر کرے گی۔ یہ بہت عام نہیں ہے اور اسے عموماً ڈیمپ پروف کورس کے ذریعہ روکا جاتا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ڈیمپ پروف کورس نہ کیا گیا ہو یا خراب ہو گیا ہو تو نمی بڑھ سکتی ہے۔ خراب اسکرٹنگ بورڈز اور فلور بورڈز، پرانے یا ٹوٹے پھوٹے پلاسٹر، اور اکھڑے ہوئے رنگ روغن یا دیواروں پر پھٹے پرانے وال پیپر ایسی نمی کے ظہور کی علامات میں شامل ہیں۔ ایسی نمی سے اکثر دیوار کے نچلے حصے میں لہروں کی شکل کے نشانات پائے جاتے ہیں۔



نمی یا اکائی کا ظہور

نمی باہر سے دیواروں کے ذریعے بہنے والے پانی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور پرنا لوں وغیرہ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر صاف دیواروں، چھتوں یا فرش میں نمی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ بارشی موسم میں اس قسم کی نمی اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔



پائپوں میں خرابی

پائپوں میں سے خارج ہونے والے پانی بھی نمی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسا عموماً باورچی خانے یا باتھ روم میں ہوتا ہے۔ اس جگہ کو ہاتھ لگانے سے گیلہ پن محسوس ہوگا۔ باہر موسم چاہے کیسا بھی ہو یہ جگہ بدستور گیلی ہی رہے گی۔





اگر آپ دیکھیں کہ اکائی جمع ہو رہی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا فوری علاج کیا جائے کیونکہ یہ تیزی سے پھیل سکتی ہے اور آپ کی صحت کیلئے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تھوڑی سی جگہ پر سے اکائی کو ہٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک صاف کپڑے پر سفید سرکہ کا اسپرے استعمال کریں۔ سفید سرکہ اکثر جگہوں پر بحفاظت استعمال کیا جاسکتا ہے جو اکائی کی جڑوں تک اس پر جا کر اثر کرتا ہے۔


اکائی کیا ہے؟
زیادہ رطوبت یا گھر میں نمی کے مسائل چھت، دیواروں اور فرش جیسی جگہوں میں جمع ہونے والے پانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔
اس سے آپ کے گھر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے رنگ روغن کا اتر جانا۔ وال پیپر کا اکھڑنا یا سیاہ رنگ کی اکائی نمودار ہونا۔ سیاہ اکائی کسی بھی جگہ میں ابھر سکتی ہے۔ لیکن عموماً کھڑکیوں، چھت یا دیواروں کی جگہ پر زیادہ ہوتی ہے۔

اگر اکائی کو صاف کرنے اور ان تجاویز پر عمل کرنے کے باوجود وہ دور نہیں ہو تو ممکن ہے مکان کی ساخت میں کوئی خرابی ہو۔ براہ کرم **0300 561 1111** پر براہ راست ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آکر اسے دیکھ کر مسئلے کو حل کرنے کیلئے کارروائی کر سکیں۔




گھر کو اچھی حالت میں رکھنے پر مشورہ

رطوبت کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی نمی کی مقدار کو کم رکھیں اور گھر کو جتنا ممکن ہو سکے گرم اور ہوا دار رکھیں۔ اس سلسلہ میں یہاں چند تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔




1. کھانا پکاتے، نہانے اور کپڑے خشک کرتے وقت کھڑکیاں کھولنے سے ہوا کی نمی کو باہر جانے کا راستہ ملتا ہے۔


2. کھانا پکاتے وقت اور نہاتے وقت اپنے ایکسٹریکٹر پنکھے کو آن کرنے سے ہوا میں سے اضافی نمی دور ہو جاتی ہے۔




3. کھانا پکاتے وقت ہانڈی وغیرہ پر ڈھکن لگانے سے ہوا میں نمی پیدا ہوتی ہے (اور آپ کے توانائی کے بل میں بھی بچت ہوتی ہے!)



4. اپنے گھر کو گرم رکھنے سے مختلف جگہوں پر رطوبت جمع نہ ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اپنے گھر کو گرم رکھنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اپنے توانائی کے بلوں میں مدد کیلئے صفحہ 15 دیکھیں۔




5. اگر ہو سکے تو گھر کے درجہ حرارت کو کم سے کم رکھیں جو آپ کیلئے آرام دہ ہو۔ (18 تا 21 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رکھنے کی تجویز دی جاتی ہے) اس کے درمیان پر رکھنے سے آپ اور آپ کا گھر دونوں اچھی حالت میں رہیں گے اور ساتھ میں توانائی کے بل میں بھی بچت آئے گی۔ اپنے توانائی کے بلوں میں مدد کیلئے صفحہ 15 دیکھیں۔




8. کھڑکیوں پر پردے اور تالین آپ کے گھر کو گرم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ پردوں کو کھڑکی کے کناروں تک اور ریڈی ایٹرز کے اوپر تک رکھنا چاہئے۔ انہیں صبح کے وقت کھولنے اور شام کو بند کرنے سے گرمی کو برقرار رکھنے اور سردی کو دور رکھنے میں مدد ملتی ہے۔


9. ریڈی ایٹر پر لگے تھر مو سے آپ کو ہر ایک کمرے کا درجہ حرارت کم کرنے یا زیادہ رکھنے سے مدد ملتی ہے۔ آپ اُن کمروں کا درجہ حرارت زیادہ رکھ سکتے ہیں جو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جو کم استعمال کرتے ہیں اُن میں اسے کم کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے توانائی کے اخراجات پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں۔ بیٹھنے والے کمروں میں تھر مو کو 4 تا 5 اور بیڈ روم میں 2 تا 3 تک رکھنا زیادہ مناسب ہے۔




6. کپڑے خشک کرنے سے نمی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر آپ کے ہاں باہر جگہ ہو تو کپڑوں کو باہر خشک کرنے سے آپ کے گھر میں اضافی نمی نہ ہونے میں مدد ملے گی۔ گھر کے اندر کپڑے خشک کرنے والے ریک کا استعمال کرتے وقت کھڑکی کو تھوڑا سا کھولنا یا اپنے ایکسٹریکٹر پنکھے کو آن کرنا اضافی نمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔



10. اندرونی دروازوں کو بند رکھنے اور روشندان کے استعمال سے گھر کی ٹھنڈی جگہوں تک جانے والی گرمی کی مقدار کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اس سے اُن کمروں میں گرمی کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے جو آپ اکثر استعمال کرتے ہیں لہذا وہ زیادہ آرام دہ بھی رہتے ہیں۔




7. صوفوں اور دیگر فرنیچر کو ریڈی ایٹر یا ہیٹر سے دور رکھنے سے گرم ہوا گھر کے دیگر کمروں تک بھی آسانی پہنچ پاتی ہے۔



سٹوریج ہیٹر

اگر آپ کے گھر میں سٹوریج ہیٹر نصب ہے تو اس کے بارے معلومات سے آشنا رہیں تاکہ گھر بھی گرم رہے اور آپ کے بل جات میں بھی کمی رہے۔ ان پٹ، بٹن سے اتنی بجلی سٹوریج جاسکتی ہے جتنا گھر گرم رکھنا ہو۔ آؤٹ پٹ، بٹن سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے کہ اگلے دن یہ گرمی کتنی تیزی سے ختم ہوتی ہے۔ سرد موسم میں ان پٹ، بٹن کو اوپر کرنے سے زیادہ گرمی ذخیرہ ہوگی۔ اگر آپ گھر پر ہیں اور ٹھنڈک محسوس کر رہے ہوں تو، آپ آؤٹ پٹ، بٹن کو بڑھا سکتے ہیں۔ توانائی کے بلوں کو کم رکھنے کیلئے رات کو یا جب گھر سے باہر ہوں تو آؤٹ پٹ، بٹن کو کم کریں۔ یاد رکھیں، آپ کوکل کی گرمی کیلئے آج ان پٹ، بٹن کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔

مشورہ و معلومات کیلئے ہمیں **0300 561 1111** پر فون کریں
توانائی کے بل میں مدد



جن گھروں میں ہیٹ پمپ یا سٹوریج ہیٹر ہوں


ہیٹ پمپ

اگر آپ کے گھر میں ہیٹ پمپ نصب ہے تو اسے ایسے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ گھر ٹھنڈا ہونے پر چلتا ہے۔ اس پر لگے بٹن سے آپ گھر کا درجہ حرارت طے کر سکتے ہیں۔ جب آپ کہیں باہر جائیں تو اسے بند کرنے کی فکر نہیں کرنا پڑتی۔

مشورہ و معلومات کیلئے ہمیں **0300 561 1111** پر فون کریں

اگر آپ اپنا بل ادا کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں تو سپلائی کرنے والی کمپنی سے بات کریں کہ وہ اس سلسلہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔

پیسوں کے سلسلہ میں مدد اور مشورہ کیلئے ہمیں **0300 561 1111** پر فون کریں



مزید معلومات اور تعاون کیلئے درج ذیل ویب سائٹ سے رجوع کریں

www.irwellvalley.co.uk/help-and-support

یہ معلوماتی کتابچہ انرجی سیونگ کی شراکت سے تیار کیا گیا ہے۔

گھر کو اچھی حالت میں رکھنے اور رطوبت کو کم کرنے کے سلسلہ

میں مزید معلومات کیلئے رجوع کریں: www.irwellvalley.co.uk/for-customers/your-safety/damp-and-condensation

ای میل: contact@irwellvalley.co.uk

فون: 0300 561 1111

